



Noble Quran القرآن الحكيم

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir)

(حضرت شاہ عبدالقدیر) اردو ترجمہ بمعہ عربی

سورة التوبۃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَرَأَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدُتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ

.1

(صف) جواب ہے اللہ کی طرف سے اور اسکے رسول سے، ان مشرکوں کو جن سے تم کو عہد تھا۔

فَسِيَحُوا فِي الْأَرْضِ أَثْرَبَعَةً أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَخَزِي الْكَافِرِينَ

.2

سو پھر لواس ملک میں چار مہینے اور جان لو کہ تم نہ تھا سکو گے اللہ کو،

اور یہ کہ (یقیناً) اللہ رُسوا کرتا ہے منکروں کو۔

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحِجَّةِ الْأَكْبَرِ يَأْنَ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ

.3

اور شنادینا (اطلاع) ہے اللہ کی طرف سے اور اسکے رسول سے، لوگوں کو دن بڑے حج کے

کہ (پیش) اللہ الگ (بری الذمہ) ہے مشرکوں سے اور اسکا رسول۔

فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوْلِيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ

سو اگر تم توبہ کرو تو تم کو (تمہارا) بھلا ہے۔ اور اگر نہ مانو تو جان لو کہ تم نہ تھا (ما جز کر) سکو گے اللہ کو۔

.4

وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعْدَ أَبِلَيْمٍ

اور خوشخبری دے منکروں کو دکھوالی مار کی۔

.5

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا

گر جن مشرکوں سے تم کو عہد تھا، پھر کچھ قصور نہ کیا تیرے ساتھ، اور مدد نہ کی تمہارے مقابلے میں کسی کو،

فَأَتَمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّقِّهِمْ

سو ان سے پورا پہنچاو (کرو) عہد اُنکے وعدہ (مقررہ مدت) تک،

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

اللہ کو خوش (پسند) آتے ہیں احتیاط والے (متقی)۔

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُوكُمُوهُمْ

پھر جب گذر جائیں مہینے پناہ (حرمت) کے توارو (قتل کرو) مشرکوں کو جہاں پاؤ،

وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوهُمْ كُلَّ مَرْضَدٍ

اور پکڑو (انہیں) اور گھیرو (انہیں) اور بیٹھو ہر جگہ ان کی تاک پر۔

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَةَ فَخَلُوا اسِيلَهُمْ

پھر اگر وہ توبہ کریں اور کھڑی رکھیں (قام کریں) نماز اور دیا کریں زکوٰۃ تو چھوڑ دو ان کی راہ۔

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

(بیشک) اللہ ہے بخشش امہربان۔

.6

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ إِسْتَجَارَ لَهُ فَأَجْرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلَغَهُ مَا مَنَّهُ[ؐ]

اور اگر کوئی مشرک تجھ سے پناہ مانے تو اسکو پناہ دے جب تک وہ سن لے کلام اللہ کا،
پھر پہنچا دے اسکو جہاں وہ نذر ہو۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

یہ اس واسطے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔

.7

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ

کیونکر ہو مشرکوں کو عہد اللہ پاس اور اسکے رسول پاس،

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُوكُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ^ص

مگر جن سے تم نے عہد کیا مسجد الحرام پاس۔

فَمَا اسْتَقَامُوا كُمْ فَأَسْتَقِيمُوا هُمْ^ج

سوجب تک تم سے سید ہے (عہد پر) رہیں، تم ان سے سید ہے (عہد پر) رہو؟

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

(بیش) اللہ کو خوش (پسند) آتے ہیں احتیاط (متقی) والے۔

.8

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهِرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيهِكُمْ إِلَّا وَلَا ذَمَّةً[ؐ]

کیونکر صلح (عہد) رہے؟ اور اگر وہ تم پر ہاتھ پائیں، نہ لحاظ کریں تمہاری خوبیشی (قربات) کا، نہ عہد کا۔

يُرْضِونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَيْ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثُرُهُمْ فَاسِقُونَ

تم کو راضی کر دیتے ہیں اپنے منہ کی بات سے، اور ان کے دل نہیں مانتے۔ اور بہت ان میں بے حکم ہیں۔

ج

اَشْتَرَوْ اِبَايَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ

بچے انہوں نے حکم اللہ کے تھوڑی قیمت پر، پھر اسکے (روکے) اسکی راہ سے۔

إِلَهُمْ سَاءَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

وہ لوگ بُرے کام ہیں جو کر رہے ہیں۔

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَذِمَةً

نہ خاطر کریں کسی مسلمان کے حق میں قربت کا، نہ عہد کا۔

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ

اور وہی ہیں زیادتی پر۔

فَلَمَّا

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَوةَ إِنَّهُمْ كُمْ فِي الدِّينِ

سو اگر توبہ کریں اور کھڑی رکھیں نماز اور دیتے رہیں زکوہ، تو تمہارے بھائی ہیں حکم شرح (دین) میں،

وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

اور ہم کھولتے ہیں پتے (نشانیاں)، ایک جاننے (علم) والے لوگوں کو۔

لَا

وَإِنْ نَكْثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِنَا كُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفَّارِ

اور اگر توڑیں اپنی قسمیں عہد کئے پچھے اور عیب دیں تمہارے دین میں، تو لڑو گفر کے سرداروں سے،

.9

.10

.11

.12

إِنَّمَا لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

اُن کی قسمیں کچھ نہیں شاید وہ باز آئیں۔

أَلَا تَقَااتِلُونَ قَوْمًا نَكْثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوا كُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

کیوں نہ لڑو ایسے لوگوں سے، کہ تو زیں اپنی قسمیں اور فکر میں رہیں کہ رسول کو نکال دیں،
اور انہوں نے پہلے چھیر کی تم سے۔

ج
أَنْخَشُوهُمْ

کیا اُن سے ڈرتے ہو؟

فَاللَّهُ أَكْحَقَ أَنْ تَخْشُوهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

سوال اللہ کا در چاہیئے تم کو زیادہ اگر ایمان رکھتے ہو۔

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيهِمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُ كُمْ عَلَيْهِمْ

لڑو اُن سے تا (کہ) عذاب کرے اللہ اُن کو تمہارے ہاتھوں اور رُسو اکرے، اور تم کو اُن پر غالب کرے،

وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ

اور ٹھنڈے کرے دل کتنے مسلمانوں کے۔

وَيُدِهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ

اور نکالے اُن کے دل کی جلن،

.13

.14

.15

وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ

اور اللہ توبہ (کی توفیق) دے گا جس کو چاہے گا۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا۔

.16

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُنْزَرُ كُوَاوَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ

(اے مسلمانو!

کیا جانتے ہو کہ (یونہی) چھوٹ جاؤ گے اور ابھی معلوم نہیں کہے اللہ نے تم میں سے جو لوگ لڑے ہیں،

وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا أُمَّوْمِنِينَ وَلِيَجَةً

اور نہیں پکڑا انہوں نے سوا اللہ کے اور اسکے رسول کے اور مسلمانوں کے کسی کو بھیدی۔

وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

اور اللہ کو سب خبر ہے تمہارے کام کی۔

.17

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمَرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ

بشر کوں کا کام نہیں کہ آباد کریں اللہ کی مسجدیں اور مانتے جائیں (گواہی دیں) اپنے اوپر کفر کو۔

أُولَئِكَ حَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ

وہ لوگ! خراب گئے ان کے عمل، اور آگ میں رہیں گے وہ ہمیشہ۔

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وہی آباد کرے مسجدیں اللہ کی جو یقین لا یا اللہ پر اور پچھلے دن (آخرت) پر،

وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَجْنَشْ إِلَّا اللَّهُ

اور کھڑی (قام) کی نماز اور دی زکوٰۃ، اور نہ ڈراسو اللہ کے کسی سے۔

فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

سوامیدوار ہیں وہ لوگ، کہ ہوں ہدایت والوں میں۔

أَجَعْلُنَّمِ سِقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

کیا تم نے ٹھہرایا حاجیوں کا پانی پلانا اور مسجد الحرام کا بسانابر ابر اسکے جو یقین لا یا اللہ پر اور پچھلے دن پر

وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اور لڑا (جہاد کیا) اللہ کی راہ میں؟

لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ

نہیں برابر (یہ دونوں) اللہ کے پاس۔

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

اور اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ

جو یقین لائے اور گھر چھوڑ آئے اور لڑے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے، انکو بڑا درجہ ہے اللہ کے پاس۔

وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

اور وہی پنچے مراد کو۔

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ هُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ

.21 خوشخبری دیتا ہے ان کو پروردگار ان کا اپنی طرف سے مہربانی کی اور رضا مندی کی،
اور باغوں کی جن میں ان کو آرام ہے ہمیشہ کا۔

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

رہا کریں اُن میں مُدام (ہمیشہ)۔

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

بیشک اللہ کے پاس بڑا اثواب ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلَيَاءَ إِنِّي أَسْتَحْبُّو الْكُفَّارَ عَلَى الْإِيمَانِ

.23 اے ایمان والو! نہ پکڑو اپنے باپوں کو اور بھائیوں کو رفیق، اگر وہ عزیز رکھیں کفر کو ایمان سے۔

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

اور جو تم میں اُن کی رفاقت کرے سو، وہ لوگ ہیں گنہگار۔

فُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ

.24 تو کہہ، اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں، اور برادری

وَأَمْوَالٌ أَقْتَرْفُتُمُوهَا وَتَجَاهَرَتْ تَحْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْهَا

اور مال جو کمائے ہیں اور سوداً گری جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو، اور حولیاں جو پسند کرتے ہو،

أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ

تم کو عزیز ہیں اللہ سے اور اسکے رسول سے، اور لڑنے (جہاد) سے اس کی راہ میں،

توراہ دیکھو، جب تک اللہ بھیجے حکم اپنا۔

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

اور اللہ راہ (بدایت) نہیں دیتا ان فرمان لوگوں کو۔

لَقَدْ نَصَرَ كُمُّ اللَّهِ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ مُخْنَثِينَ

مد کر چکا ہے تم کو اللہ بہت میدانوں میں، اور دن خنین کے،

إِذَا عَجَبْتُمُ كُمُّ كَثَرْتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا

جب اترائے تم اپنی بہتائیت (کثرت) پر، پھر وہ کچھ کام نہ آئی تمہارے،

وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ

اور تنگ ہو گئی تم پر زمین ساتھ اپنی فراخی کے (باوجود)، پھر سٹھے (بھاگ نکلے) تم پیٹھ دے (پھیر) کر۔

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودَ الْمَرْءَوَهَا

پھر اتاری اللہ نے اپنی طرف سے تسلیم اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر،

اور اتاریں فوجیں، جو تم نے نہیں دیکھیں۔

.25

.26

وَعَذَابَ الَّذِينَ كَفَرُوا

اور مار دی کافروں کو۔

وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

اور یہی سزا ہے منکروں کی۔

۲7 ^{فَلَمَّا يَتُوبَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}

پھر توبہ (کی توفیق) دے گا اللہ، اسکے بعد جس کو چاہے۔ اور اللہ بخشتا ہے مہربان۔

۲8 ^{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجْسٌ فَلَا يُقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}

اے ایمان والو! مشرک جو ہیں سولپید (ناپاک) ہیں، سونزدیک نہ آئیں مسجد الحرام کے اس برس کے بعد۔

۲9 ^{وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ}

اور اگر تم ڈرتے ہو فقر سے تو آگے غنی کرے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

(بیشک) اللہ ہے سب جانتا حکمت والا۔

۳0 قاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ

لڑوان لوگوں سے، جو یقین نہیں رکھتے اللہ پر، نہ پچھلے (آخرت کے) دن پر،

وَلَا يُحِرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

نہ حرام جائیں جو حرام کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے،

وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحُكْمِ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ

اور نہ قبول کریں دین سچا، وہ جو کتاب والے ہیں،

حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِهِمْ صَاغِرُونَ

جب تک دیں جزیہ، سب ایک ہاتھ سے اور وہ بے قدر ہوں۔

.30

وَقَالَتِ الْيَهُودُ مُغَرِّرٌ أَبْنُ اللَّهِ

اور یہود نے کہا، عزیر بیٹا اللہ کا۔

وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ مُسَيْخُ أَبْنُ اللَّهِ^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ}

اور نصاری نے کہا، مسیح بیٹا اللہ کا۔

ذَلِكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا فَوْاهُمْ

یہ باتیں کہتے ہیں اپنے منہ سے۔

يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلٍ

ریس کرنے لگے اگلے منکروں کی بات کی۔

قَاتَلَهُمُ اللَّهُ

مارڈا لے ان کو اللہ۔

أَنَّى يُؤْفَكُونَ

کہاں سے پھرے جاتے (دھوکا کھارہ) ہیں۔

اَتَخْدُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمُسِيَّحِ ابْنَ مَرْيَمَ

ٹھہرائے ہیں اپنے عالم اور درویش خدا، اللہ کو چھوڑ کر، اور مسیح پیٹا مریم کا۔

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور حکم یہی ہوا تھا کہ بندگی کریں ایک صاحب کی،

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا۔

سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشَرِّكُونَ

وہ پاک ہے ان کے شریک بتانے سے۔

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ

چاہیں کہ بجہادیں روشنی اللہ کی اپنے منہ (کی پھونکوں) سے،

وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتَمَّمَ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

اور اللہ نہ رہے بن پوری کئے اپنی روشنی، اور پڑے بُرآ میں منکر۔

هُوَ الَّذِي أَنْهَى سَلَّمَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ فَدِينَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

اس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت دے کر اور دین سچا، تا (ک) اس کو اوپر (غالب) کرے ہر دین سے (پ)،

وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

اور پڑے بُرآ میں مشرک۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

اے ایمان والو! بہت عالم اور درویش اہل کتاب کے کھاتے ہیں مال لوگوں کے ناحق،

وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

اور (اس طرح) روکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔

وَالَّذِينَ يَكِنُونَ الْحَبَّةَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

اور جو لوگ گاڑ (جمع کر) رکھتے ہیں سونا اور روپا (چاندی)، اور خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں،

سو ان کو خوشخبری سناؤ کھوائی مار کی۔

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوْتِي بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ

جس دن آگ دھکائیں گے اس پر دوزخ کی، پھر داغیں گے اس سے ان کے ماتھے اور کروٹیں اور پیٹھیں،

هَذَا مَا كَنَزْتُمُ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكِنُونَ

یہ ہے جو تم گاڑتے (جمع کرتے) تھے اپنے واسطے، اب چکھو مزہ اپنے گاڑنے (جمع کرنے) کا۔

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

مہینوں کی گنتی اللہ پاس بارہ مہینے ہیں اللہ کے حکم میں، جس دن (سے) پیدا کئے آسمان و زمین،

مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمَةٌ

ان میں چار (مہینے) ہیں ادب کے۔

ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيَمُ

یہی ہے سیدھادین،

فَلَا تُظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

سو ان میں ظلم نہ کرو اپنے اوپر،

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً

اور لڑو مشرکوں سے ہر حال (سب مل کر)، جیسے وہ لڑتے ہیں تم سے ہر حال (سب مل کر)۔

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

اور جانو کہ اللہ ساتھ ہے ڈروالوں (متقیوں) کے۔

إِنَّمَا النَّسِيِّءُ زِيَادَةً فِي الْكُفُرِ يُضْلِلُ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا

یہ جو مہینہ ہٹا دینا ہے، سوبھائی بات ہے کفر کے عہد میں، مگر ابھی میں پڑتے ہیں اس سے کافر،

يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحِرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِّئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ

چھٹا (کھلا) گنتے ہیں اسکو ایک برس اور ادب کا گنتے ہیں ایک برس کہ پوری کر لیں گنتی جو اللہ نے رکھی ادب کی

فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ

پھر حلال کرتے ہیں جو منع کیا اللہ نے،

زُرْيَّنَ هُمْ سُوءٌ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

بھلے دکھائے ہیں ان کو بُرے کام۔ اور اللہ راہ نہیں دیتا ملنگر قوم کو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَثَقْلَتُمْ إِلَى الْأَرْضِ

اے ایمان والو! کیا ہوا ہے تم کو؟ جب کہتے کوچ کرو اللہ کی راہ میں، ڈھے جاتے ہو زمین پر۔

أَرَضِيْتُمُ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ

کیا رب تجھے دنیا کی زندگی پر آخرت چھوڑ کر؟

فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

سو کچھ نہیں دنیا کا برتنا، آخرت کے حساب میں، مگر تھوڑا۔

إِلَّا تَنْفِرُوا يَعْذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبِدِلُ قَوْمًا غَيْرَ كُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًا

اگر نہ نکلو گے، تم کو دے گا (اللہ) دکھ کی مار، اور بدلتے گا وہ لوگ تمہارے سوا اور کچھ نہ بگاڑو گے اسکا۔

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اور اللہ سب چیز پر قادر ہے۔

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَثَانِيَ أَثَانِيَ إِذْ هُمْ مَا فِي الْغَارِ

اگر تم نہ مدد کرو گے رسول کی، تو اس کی مدد کی ہے اللہ نے، جس وقت اس کو نکلا کافروں نے،

دو جان سے، جب دونوں تھے غار میں،

صَدِيقٌ

إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

جب کہتے لگا اپنے رفیق کو، تو غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا

پھر اللہ نے اتاری اپنی طرف سے تسکین اُس پر اور مدد کو اسکی بھیجیں وہ فوجیں، کہ تم نے نہ دیکھیں،

وَجَعَلَ لِكِلْمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى

اور یچے ڈالی بات کا فروں کی۔

وَكِلْمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعَلِيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

اور اللہ کی بات ہمیشہ اوپر ہے۔ اللہ زبردست ہے حکمت والا۔

ج
اَنْفِرُوا خِفَاً وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفَسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

نکلو ہلکے اور بو جھل، اور لڑو اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور جان سے۔

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

یہ بہتر ہے تمہارے حق میں، اگر تم کو سمجھ ہے۔

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا أَقْاصِدًا اَلَتَّبَعُوكُ وَلَكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَصُ

اگر کچھ مال ہوتا نزدیک اور سفر ہا کا تو تیرے ساتھ چلتے، لیکن دُور نظر آئی ان کو طرف۔

وَسَيَخْلُفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرْجَنَا مَعَكُمْ

اب قسمیں کھائیں گے اللہ کی، کہ ہم مقدور رکھتے تو نکلتے تمہارے ساتھ۔

يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

وابال میں ڈالتے ہیں اپنی جان۔ اور اللہ جانتا ہے وہ جھوٹے ہیں۔

.41

.42

.43

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لَمَّا أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبُونَ

اللہ بخشنے تجھ کو، کیوں رخصت دی تو نے ان کو؟

جب تک معلوم ہوتے تجھ پر جنہوں نے سچ کہا، اور جانتا تو جھوٹوں کو۔

.44

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا إِيمَانَهُمْ وَأَنْفُسِهِمْ

نہیں رخصت مانگتے تجھ سے، جو لوگ یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور پچھلے دن (آخرت) پر،

اس سے کہ لڑیں اپنے مال اور جان سے۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

اور اللہ خوب جانتا ہے ڈروالوں (متقیوں) کو۔

.45

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

رخصت وہی مانگتے ہیں تجھ سے جو یقین نہیں رکھتے اللہ پر اور پچھلے دن (آخرت) پر،

وَإِذَا تَابَ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَأْيِهِمْ يَتَرَكَّذُونَ

اور شک میں پڑے ہیں دل ان کے، سو وہ اپنے شک ہی میں بھکلتے ہیں۔

.46

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَا عَدُوَ اللَّهِ عَدَّةٌ

اور اگر چاہتے نکلنا تو تیار کرتے کچھ اسباب اس کا،

وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ أَنِّي عَاثَهُمْ فَتَبَطَّلُهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ

اور لیکن خوش (پسند) نہ لگا اللہ کو انکا اٹھنا، سو بو جھل کر دیا ان کو اور حکم ہوا کہ بیٹھو ساتھ بیٹھنے والوں کے۔

لَوْ خَرَجُوا فِي كُمْ مَا رَأَوْ كُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا دَصْعُوا خِلَالَكُمْ يَعْنُونَ كُمُ الْفِتْنَةَ

اگر نکلتے تم میں کچھ نہ بڑھاتے تمہارا مگر خرابی اور گھوڑے دوڑاتے تمہارے اندر، بگاڑ کروانے کی تلاش (کیلئے)

وَفِي كُمْ سَمَّا عَوْنَاهُمْ

اور تم میں بعضے جاسوس ہیں اُن کے۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

اور اللہ خوب جانتا ہے بے انصافوں کو۔

لَقَدِ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ وَقْلَبُوهُ الْكُفَّارُ الْأُمُورَ

کرتے رہے ہیں تلاش بگاڑ کی آگے (پہلے) سے اور اٹھے (اٹ پٹ کرتے) رہے ہیں تیرے کام،

حَتَّىٰ جَاءَ الْحُقْقُ وَظَاهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ

جب تک آپنچا سچا وعدہ، اور غالب ہوا حکم اللہ کا، اور وہ ناخوش ہی رہے۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتَتِّي

اور بعضے ان میں کہتے ہیں، مجھ کو رخصت دے اور مگر اسی میں نہ ڈال،

أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقْطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ

ستا ہے وہ تو مگر اسی میں پڑے ہیں، اور (یقیناً) دوزخ گھیر رہی ہے منکروں کو۔

إِنْ تُصِبِّلَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ

اگر تجھ کو پہنچ کچھ خوبی، وہ بڑی لگے ان کو۔

وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخْذَنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلِ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ

اور اگر پہنچے سختی، کہیں ہم نے سنجال لیا تھا اپنا کام آگے (پہلے) ہی، اور پھر (لوٹ) کر جائیں خوشیاں کرتے۔

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا

تو کہہ، ہم کونہ پہنچے گا مگر وہی جو لکھ دیا اللہ نے ہم کو، وہی ہے صاحب ہمارا۔

وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَسَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

اور اللہ ہی پر چاہئے بھروسہ کریں مسلمان۔

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِنَّمَا الْحُسْنَى لِلْمُحْسِنِينَ

تو کہہ تم کیا چیتو گے (سوچو گے) ہمارے حق میں، مگر دو خوبی میں سے ایک۔

وَنَحْنُ نَرَبُّنَا بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِيهِنَا

اور ہم امیدوار ہیں تمہارے حق میں کہ ڈالے تم پر اللہ کچھ عذاب، اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں۔

فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبَّصُونَ

سو منتظر رہو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ

تو کہہ، مال خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، ہر گز قبول نہ ہو گا تم سے۔

إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ

تحقیق تم ہوئے ہو لوگ بے حکم (نافرمان)۔

.51

.52

.53

.54

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفْقَاهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ

اور موقف (منع) نہیں ہوا قبول ہونا اکے خرچ کا، مگر اسی پر کہ وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اسکے رسول سے،

وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ

اور نہیں آتے نماز کو مگر جی ہارے (ستی اور کامی سے)، اور خرچ نہیں کرتے مگر برے دل سے۔

.55

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ

سو تو تعجب نہ کر اُن کے مال اور اولاد سے۔

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَعْذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهِقَ أَنفُسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ

یہی چاہتا ہے اللہ کہ ان کو عذاب کرے ان چیزوں سے دنیا کے جیتے،

اور نکلے ان کی جان جب تک وہ کافر ہی رہیں۔

.56

وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ

اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، کہ وہ بیشک تم میں ہیں۔ اور وہ تم میں نہیں، لیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں۔

.57

لَوْيَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَةً اتِّ أَوْ مَدَّ حَلَالَ لَوْلَوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ

اگر پائیں کہیں بچاؤ، یا کوئی گڑھے یا سرگھسانے کو جگہ، تو اُنے بھاگیں اُسی طرف رسیاں توڑاتے۔

.58

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ

اور بعضے ان میں ہیں کہ تجھ کو طعن دیتے ہیں زکوٰۃ بانٹے میں۔

فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضْوًا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ

سو اگر ان کو ملے اس میں سے تو راضی ہوں اور اگر نہ ملے، تب ہی وہ ناخوش ہو جائیں۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

اور کیا خوب تھا اگر وہ راضی ہوتے، جو دیا ان کو اللہ نے اور اسکے رسول نے،

وَقَالُوا حَسِبْنَا اللَّهَ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ

اور کہتے، بس ہے ہم کو اللہ دے رہے گا ہم کو اللہ اپنے فضل سے، اور اس کا رسول،

إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغُبُونَ

(بیشک) ہم کو اللہ ہی چاہیئے (کی طرف راغب ہیں)۔

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ

زکوٰۃ جو ہے، سو حق ہے مفلسوں کا اور محتاجوں کا، اور اس کام پر جانے والوں کا، اور جن کا دل پر چانا ہے،

وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

اور گردن چھڑانے میں، اور جو تاو ان بھریں، اور اللہ کی راہ میں، اور راہ کے مسافر کو۔

فَرِيَضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

مُہھرا دیا (یہ فریضہ) ہے اللہ کا۔ اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا۔

وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذِنَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذْنُ

اور بعضے ان میں بد گوئی کرتے ہیں نبی کی، اور کہتے ہیں یہ شخص کان (کانوں کا کچا) ہے۔

.59

.60

.61

قُلْ أَذْنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ

تو کہہ، کان (کان لگا کر سنتا) ہے تمہارے بھلے کو، یقین لاتا ہے اللہ پر، اور یقین کرتا ہے بات مسلمان کی،

وَرَحْمَةُ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ

اور مہر (سر اپار حمت) ہے ایمان والوں کے حق میں تم میں سے۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ رَسُولَ اللَّهِ هُمْ عَذَابُ الْأَلِيمِ

اور جو لوگ بد گوئی کرتے ہیں اللہ کے رسول کی، ان کو ذکر کی مار ہے۔

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لَيْزِضُونَ كُمْ

.62

قتیمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے آگے، کہ تم کو راضی کریں۔

وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُو كُمْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ

اور (حالات کے) اللہ کو اور اسکے رسول کو بہت (زیادہ) ضرور (لازم) ہے راضی کرنا، اگر وہ ایمان رکھتے ہیں۔

أَلَّمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَاجِدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا

.63

وہ جان نہیں چکے کہ جو کوئی مقابلہ کرے اللہ اور اسکے رسول سے تو اسکو ہے دوزخ کی آگ، پڑا رہے اس میں

ذَلِكَ الْخُزُمِيُّ الْعَظِيمُ

یہی ہے بڑی رسوانی۔

يَخْذَلُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ نُذَلَّ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ

.64

ڈرا کرتے ہیں منافق کہ نازل نہ ہو ان پر کوئی سورت کہ جتادے ان کو جوان کے دلوں میں ہے۔

قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ لَخَرِّجَ مَا تَحْذَرُونَ

تو کہہ، ٹھٹھے (نداق) کرتے رہو۔ اللہ کھولنے والا ہے جس چیز کا تم کو ڈر رہے۔

وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخْوَصُ وَنَلْعَبْ

اور جو تو ان سے پوچھے، تو کہیں ہم تو بول چال کرتے تھے، اور کھیل۔

قُلْ أَإِلَهٌ وَآيَاتٍ وَرَسُولٍ هُنَّمُ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ

تو کہہ، اللہ سے اور اس کے کلام سے اور اس کے رسول سے ٹھٹھے (نداق) کرتے تھے؟

لَا تَعْتَنِرُ وَا قَدْ كَفَرُ ثُمَّ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

بہانے مت بناؤ، تم (قیناً) کافر ہو گئے ایمان لا کر،

إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا أُجْرِمِينَ

اگر ہم معاف کریں گے تم میں بعضوں کو، البتہ مار بھی دیں گے بعضوں کو، اس پر کہ وہ گنہ گار تھے۔

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمُ مِنْ بَعْضٍ

منافق مرد اور عورتیں سب کی ایک چال ہے،

يَا أَمْرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهِمْ

سکھائیں بات بری اور چھڑائیں (منع کریں) بھلی سے، اور بندرا کھیں اپنی مٹھی۔

نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ

بھول گئے اللہ کو، سو وہ بھول گیا ان کو،

.65

.66

.67

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

تحقیق منافق وہی ہیں بے حکم۔

ج

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا

.68

وعدہ دیا اللہ نے منافق مرد اور عورتوں کو، اور مکروہوں کو، دوزخ کی آگ، پڑے رہیں اسی میں۔

ج

هُيَ حَسْبُهُمْ

وہی بس (موزوں) ہے ان کو۔

صَلَّى
وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

اور اللہ نے ان کو پھٹکارا۔ اور ان کو ہے عذاب برقرار (ہمیشہ قائم رہنے والا)۔

.69

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرُهُمُ الظَّالِمُونَ

جس طرح تم سے اگلے زیادہ تھے زور (طاقت) میں، اور بہت رکھتے مال اور اولاد۔

فَأَسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَإِذَا مَتَّهُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا أَسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

پھر برت گئے اپنا حصہ، پھر تم نے برت لیا اپنا حصہ، جیسے برت گئے تم سے اگلے اپنا حصہ،

بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاصُوا

اور تم نے قدم ڈالے (بھی بحث میں پڑے)، جیسے انہوں نے قدم ڈالے (وہ بحث میں پڑے) تھے۔

صَلَّى
أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وہ لوگ! مٹ گئے انکے کئے دنیا میں اور آخرت میں۔

وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

اور وہی لوگ پڑے ہیں زیاد میں (خسارہ اٹھانے والے)۔

أَلَّمْ يَأْتِهِمْ نَبَأً الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

کیا پہنچا نہیں ان کو احوال اگلوں کا،

قَوْمٌ نُوحٌ وَعَادٍ وَثَمُودٍ وَقَوْمٌ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ

قوم نوح کا اور عاد کا اور ثمود کا، اور قوم ابراہیم کا اور مدین والوں کا، اور الٹی بستیوں کا؟

أَتَتْهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبُيْنَاتِ

پہنچ اُن پاس ان کے رسول صاف حکم لے کر

فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفَسَهُمْ يَظْلِمُونَ

پھر اللہ ایسا نہ تھا کہ اُن پر ظلم کرتا، مگر وہ اپنے پر آپ ظلم کرتے تھے۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَرْلِيَاءُ بَعْضٍ

اور ایمان والے مرد اور عورتیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔

يَا أَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ

سکھاتے ہیں نیک بات، اور منع کرتے ہیں بُری سے،

وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

اور کھڑی رکھتے ہیں نماز اور دینتے ہیں زکوٰۃ اور حکم میں چلتے ہیں اللہ کے اور اسکے رسول کے۔

.70

.71

أُولَئِكَ سَيِّدُهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

وہ لوگ، ان پر رحم کرے گا اللہ۔ البتہ اللہ زبردست ہے حکمتوں والا۔

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

وعدہ دیا اللہ نے، ایمان والے مردوں اور عورتوں کو باغ، بہتی ہیں نیچے اُنکے نہیں، رہا کریں ان میں (ہمیشہ)،

وَمَسَاكِنَ طَلِيبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ

اور مکان سترے (نفس قیام گاہیں)، رہنے کے (سدابہار) باغوں میں۔

وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ

اور رضامندی (خوشنوデی) اللہ کی، (جو) سب سے بڑی۔

ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

پھی ہے بڑی مراد ملنی۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدُ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِمْ

اے نبی! لڑائی کر کافروں سے اور منافقوں سے، اور تند خوئی (سختی) کر ان پر۔

وَمَا وَأَهْمَ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمُصِيدُ

اور ان کاٹھ کانا دوزخ ہے۔ اور وہ بڑی جگہ پہنچے۔

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا

قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی ہم نے نہیں کہا۔

.72

.73

.74

وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفُرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمُوا بِهَا لَمْ يَنْأُوا

اور بیشک کہا ہے لفظ کفر کا، اور منکر ہو گئے ہیں مسلمان ہو کر، اور فکر کیا تھا جو نہ ملا۔

وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ

اور یہ سب کرتے ہیں بدلا اس کا کہ دولتمند کر دیا ان کو اللہ نے، اور اسکے رسول نے، اپنے فضل سے۔

فَإِنْ يَتُوبُوا إِلَكُ خَيْرٌ أَهْمَمُ

سو اگر توبہ کریں، تو بھلا ہے ان کے حق میں۔

وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

اور اگر نامانیں گے، تو مار دے گا ان کو اللہ دُکھ کی مار، دنیا میں اور آخرت میں۔

وَمَا هُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

اور نہیں ان کا روئے زمین میں کوئی حمایت نہ مدد گار۔

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لِئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدِّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ .75

اور بعضے ان میں وہ ہیں کہ عہد کیا تھا اللہ سے،

اگر دے ہم کو اپنے فضل سے تو ہم خیرات کریں اور ہو رہیں ہم نیکی والوں میں۔

فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخْلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ .76

پھر جب دیا ان کو اپنے فضل سے، اس میں بخل کیا اور پھر (پلٹ) گئے ملا کر (روگردانی کرتے ہوئے)۔

.77

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمٍ يَأْلُقُونَهُ

پھر اس کا اثر کھان غاق انکے دل میں، جس دن تک اس سے ملیں گے اس پر کہ خلاف کیا

بِمَا أَخْلَقُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

اللہ سے جو وعدہ دیا، اور اس پر کہ بولتے تھے جھوٹ۔

.78

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجَوْا هُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمَ الْغَيْوَبِ

جان نہیں چکے، کہ اللہ جانتا ہے ان کا بھید اور مشورہ، اور یہ کہ اللہ جانے والا ہے ہرچھے کا۔

.79

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوَّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ

وہ جو طعن کرتے ہیں دل کھول کر، خیرات کرنے والے مسلمانوں کو،

وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ لَا

اور ان پر جو نہیں رکھتے مگر اپنی محنت (کی کمائی) کا، پھر ان پر ٹھٹھے (نداق) کرتے ہیں۔

سَخَرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

اللہ نے ان سے ٹھٹھا (نداق) کیا ہے اور ان کو دکھ کی مار ہے۔

.80

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ

تو ان کے حق میں بخشش مانگ یا نہ مانگ۔

ج

إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

اگر ان کے واسطے ستر بار بخشش مانگے، تو بھی ہر گز نہ بخشے ان کو اللہ،

قٰلَ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

یہ اس پر کہ وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اسکے رسول سے۔

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

اور اللہ راہ (ہدایت) نہیں دیتا بلکہ حکم (نافرمان) لوگوں کو۔

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعِدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ

.81

خوش ہوئے پچھاڑی ڈالے گئے (پیچھے رہنے والے)، بیٹھ کر جدار رسول سے،

وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا إِيمَانَهُمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَقْرُبُوا فِي الْحَرَمَةِ

اور بُر الگا کہ لڑیں اپنے مال سے اور جان سے اللہ کی راہ میں، اور بولے مت کوچ کرو گرمی میں۔

فُلْ نَارِ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرَّاً

تو کہہ، دوزخ کی آگ اور سخت گرم ہے۔

لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

اگر ان کو سمجھ ہوتی۔

فَلَيُضْحَكُوا أَقْلِيلًا وَلَيُبَكُّوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكُسِّبُونَ

.82

سوہنس لیں تھوڑا، اور روکیں بہت سا۔ بدلا اس کا جو کماتے تھے۔

فَإِنْ رَأَجَعْلَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذُنْكَ لِلْخُرُوجِ

.83

سو اگر پھر لے جائے تجوہ کو اللہ، کسی فرقے کی طرف اُن میں سے، پھر یہ رخصت چاہیں تجوہ سے نکلنے کو،

صل

فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبْدًا وَلَنْ تُقَاتِلُو امْعِي عَدُوًا

تو شو کہہ، ہر گز نہ نکلو گے میرے ساتھ کبھی، اور نہ لڑو گے میرے ساتھ کسی دشمن سے۔

إِنَّكُمْ رَاضِيُتُمْ بِالْقَعْدَةِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ

تم کو پسند آیا بیٹھ رہنا پہلی بار، سوبیٹھے رہو ساتھ پچھاڑی (پیچھے رہنے) والوں کے۔

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبْدًا وَلَا تُقْمِدْ عَلَى قَبْرِهِ

.84

اور نماز نہ پڑھ ان میں کسی پر، جو مر جائے کبھی، اور نہ کھڑا ہو اسکی قبر پر۔

إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِإِلَهِهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُوَاْهُمْ فَاسْقُونَ

وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اسکے رسول سے، اور مرے ہیں بے حکم (کہ وہ سر کش تھے)۔

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ

.85

اور تعجب نہ کر ان کے مال اور اولاد سے۔

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَرَهُقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ

اللہ یہی چاہتا ہے کہ عذاب کرے انکو، ان چیزوں سے دنیا میں اور نکلے ان کی جان جب تک کافر ہی رہیں۔

وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةً أَنْ آمُنُوا بِإِلَهِهِ وَجَاهُدُوا مَعَ رَسُولِهِ

.86

اور جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت کہ یقین لا و اللہ پر، اور لڑائی کرو اسکے رسول کے ساتھ (ہو کر)،

إِنَّتَأْذَنَكَ أُولُو الْطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَاتُلُوا ذَرَنَا نَكْنُ مَعَ الْقَاعِدِينَ

رخصت مانگتے ہیں مقدور والے ان کے،

اور کہتے ہیں ہم کو چھوڑ دے، رہ جائیں ساتھ بیٹھنے (پیچھے رہنے) والوں کے۔

.87

رَضُوا إِنْ يَكُونُو امَّا الْخُوَافِي وَطَبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَقْهُونَ

خوش آیا کہ رہ جائیں ساتھ پچھلی (پیچھے رہنے والی) عورتوں کے، اور مہر ہوئی ان کے دل پر،
سوان کو بوجھ (سمجھ) نہیں۔

.88

لِكِنَ الرَّسُولُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ

لیکن رسول اور جو ایمان لائے ہیں ساتھ اسکے، لڑے ہیں اپنے مال اور جان سے۔

وَأُولَئِكَ هُمُ الْحَسِيرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

اور انہی کو ہیں خوبیاں، اور وہی پہنچ مراد کو۔

.89

أَعَدَ اللَّهُ هُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

تیار کھے ہیں اللہ نے ان کے واسطے باغ، بہتی ہیں نیچے اُنکے نہریں، رہا کریں (ہمیشہ) ان میں۔

ذَلِكَ الْفُورُزُ الْعَظِيمُ

یہی ہے بڑی مراد ملنی۔

.90

وَجَاءَ الْمَعْذِلُونَ مِنَ الْأَغْرَابِ لِيُؤْذَنَ هُمْ

اور آئے بہانے کرتے گنوارتا (کہ) رخصت ملے ان کو (پیچھے رہ جانے کی)،

وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

اور (اس طرح) بیٹھ رہے جو جھوٹے ہوئے اللہ سے اور رسول سے۔

سَيِّصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

اب پنچے گی ان پر، جو منکر ہیں ان میں ذکر کی مار۔

.91

لَيْسَ عَلَى الْضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمُرْضَى

ضعیفوں پر تکلیف نہیں، نہ مريضوں پر،

ج

وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا إِلَيْهِ وَرَسُولُهُ

نه ان پر جن کو پیدا نہیں جو خرچ کریں، جب دل سے صاف ہوں اللہ اور رسول کے ساتھ۔

مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ

نہیں نیکی والوں پر الزام کی راہ۔

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

.92

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ

اور نہ ان پر (کوئی گرفت ہے) کہ جب تیرے پاس آئے تا (ک) ان کو سواری دے،

ٹونے کہا، مجھ کو پیدا (میرے پاس) نہیں جو تم کو سواری دوں،

تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا لَا يَجِدُو مَا يُنْفِقُونَ

(اس پر) اُلٹے پھرے اور انکی آنکھوں سے بہتے ہیں آنسو اس غم سے،

کہ ان کو پیدا (پاس کچھ) نہیں جو خرچ کریں۔

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ

راہ الزام کی اُن پر ہے جو رخصت مانگتے ہیں تجھ سے اور مالدار ہیں۔

رَصْوَا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْحَوَافِ

خوش (اچھا) لگا نہیں کہ رہ جائیں (پاس) پچھلی (بیچھے رہنے والی) عورتوں کے،

وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

اور مُہر کی اللہ نے اُن کے دل پر، سو وہ نہیں جانتے (اسکا انجم)۔

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمُ إِلَيْهِمْ

بہانے لائیں (بنائیں) گے تمہارے پاس، جب پھر (لوٹ) کر جاؤ گے اُن کی طرف۔

قُلْ لَا تَعْنِي رُؤْسَ الَّذِينَ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ

ٹوکہ، بہانے مت بناؤ، ہم نہ مانیں گے تمہاری بات، ہم کو بتا جکا ہے اللہ تمہارے احوال۔

وَسَيَرَسِي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ

اور ابھی دیکھے گا اللہ تمہارے کام، اور اس کا رسول،

ثُمَّ تُرْدُونَ إِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

پھر (لوٹائے) جاؤ گے طرف اس جانے والے چھپے اور کھلے کے، سو وہ بتائے گا تم کو جو کر رہے تھے۔

سَيَخْلُفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمُ إِلَيْهِمْ لِتُعَرِّضُوا عَنْهُمْ

اب قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے پاس، جب پھر کر جاؤ گے انکی طرف، تا (کہ) اُن سے در گذر کرو۔

صَلَّى
فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ

سودر گذر کروان سے۔

إِنَّهُمْ بِرُجُسٍ وَمَا أَهْمُ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
صَلَّى

وہ لوگ ناپاک ہیں، اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے، بدله ان کی کمائی کا۔

صَلَّى
يَخْلُقُونَ لِكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ

.96

قسمیں کھائیں گے تمہارے پاس، کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ،

فَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

سو اگر تم راضی ہو گئے اُنسے، تو اللہ راضی نہیں بے حکم (نافرمان) لوگوں سے۔

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفُرًا وَنِفَاقًا وَأَجَدَّهُمْ لَا يَعْلَمُوا حَدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ
صَلَّى

.97

گنوار سخت منکر ہیں اور منافق اور اسی لائق کہ نہ سیکھیں قاعدے، جو نازل کئے اللہ نے اپنے رسول پر۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا۔

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَخَلُّ مَا يُفْقِنُ مَغْرِمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ
ج

.98

اور بعضے گنوار وہ ہیں کہ ٹھہراتے ہیں اپنا خرچ کرنا چڑی (تاوان)، اور تاکتے ہیں تم پر زمانے کی گردشیں۔

عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
صَلَّى

انہیں پر آئے گردش بُری۔ اور اللہ سب سنتا ہے جانتا۔

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

اور بعضے گنواروہ ہیں کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور پچھلے دن (آخرت) پر،

وَيَتَخَلُّ مَا يُنِفِّقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتٍ الرَّسُولِ

اور ٹھہراتے ہیں اپنا خرچ کرنا نزدیک ہونا اللہ سے، اور دعا لینی رسول کی۔

أَلَا إِنَّمَا قُرْبَةٌ لِهُمْ

ستا ہے وہ ان کے حق میں نزدیکی ہے۔

سَيِّدُ الْجَلَلِهِمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی مہر (رحمت) میں۔ اللہ بخششہ والا مہربان ہے۔

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِيمَانٍ

اور جو لوگ قدیم ہیں پہلے وطن چھوڑنے والے اور مدد کرنے والے، اور جو ان کے پیچھے آئے نیکی سے،

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

اللہ راضی ان سے اور وہ راضی اس سے،

وَأَعْدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

اور کھے ہیں واسطے ان کے باغ، نیچے بہتی نہریں، رہا کریں ان میں ہمیشہ۔

ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

یہی ہے بڑی مراد ملنی۔

وَلِمَنْ حَوْلُكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ

اور بعضے تمہارے گرد کے گنوار منافق ہیں۔

وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ

اور بعضے مدینے والے اڑر ہے ہیں نفاق پر، ثوان کو نہیں جانتا۔ ہم کو معلوم ہیں۔

سَنَعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ

ان کو ہم عذاب کریں گے دوبار، پھر پھیرے جائیں گے بڑے عذاب میں۔

وَآخَرُونَ اغْتَرُونَ بِذُوْبِهِمْ خَلُطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا

اور بعضے مانے اپنا گناہ ملایا ایک کام نیک اور دوسرا بد۔

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ

شاید اللہ معاف کرے ان کو۔

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

حُذْنُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَثُرَّ كِبِيرٌ بِهَا وَصَلٰلٌ عَلَيْهِمْ

لے اُن کے مال میں سے زکوٰۃ، کہ ان کو پاک کرے اس سے اور تربیت اور دعا دے ان کو،

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكْنٌ لَهُمْ

البتہ تیری دعا ان کو آسودگی ہے۔

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اور اللہ سب سنتا ہے جانتا۔

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبُلُ التَّوْبَةَ عَنِ الْعِبَادِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ

.104

کیا جان نہیں چکے کہ اللہ آپ قبول کرتا ہے توہہ اپنے بندوں سے اور لیتا زکا تیں (صد کات)،

وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّحِيمُ

اور اللہ ہی توہہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

ص

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرِسِي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

.105

اور کہہ، کہ عمل کئے جاؤ، پھر آگے دیکھے گا اللہ کام تمہارا اور رسول اور مسلمان۔

وَسَرْدُّونَ إِلَى عَالِمِ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

اور پیچھے پھیرے (لوٹائے) جاؤ گے اس پیچے اور کھلے کے واپس پاس،
پھر وہ جتائے (بتائے) گاتم کو جو کچھ تم کرتے تھے۔

ظ

وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذَّبُهُمْ وَإِمَّا يُتُوبُ عَلَيْهِمْ

.106

اور بعضے اور لوگ ہیں کہ ان کا کام ڈھیل میں (ملتوی) ہے حکم پر اللہ کے،

یا ان کو عذاب کرے یا ان کو معاف کرے۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسَاجِدًا أَضِرَّارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

اور جنہوں نے بنائی ہے مسجد ضد پر اور کفر پر، اور پھوٹ ڈالنے کو مسلمانوں میں،

وَإِنْ رَصَادًا لِلنَّاسِ حَارِبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ

اور تھانگ (گھات کی جگہ) اس شخص کی جو لڑ رہا ہے اللہ سے اور رسول سے، آگے کا (قبل ازیں)،

وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

اور اب قسمیں کھائیں گے، کہ ہم نے بھائی ہی چاہی تھی۔ اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔

لَا تَقْعُمْ فِيهِ أَبَدًا

ٹونہ کھڑا ہو اس میں کبھی۔

لَمْ سُجِّدْ أَسَسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقْوَمَ فِيهِ

جس مسجد کی بنیاد دھری پر ہیز گاری پر پہلے دن سے، وہ لا اُقت ہے کہ تو کھڑا ہو اس میں۔

فِيهِ رِجَالٌ يُجْهِيْوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا

اس میں وہ مرد (لوگ) ہیں جن کو خوشی ہے پاک رہنے کی۔

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

اور اللہ چاہتا ہے سترہائی (پاکیزگی) والوں کو۔

أَفَمَنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ

بھلا جس نے بنیاد دھری اپنی عمارت کی پر ہیز گاری پر اللہ سے، اور رضامندی پر، وہ بہتر

أَمْ مِنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَاقٍ جُرْفٍ هَارِقًا هَا رَبِّهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ

یا جس نے نیو (بنیاد) رکھی اپنی عمارت کی کنارہ پر ایک کھائی کے جوڑھیتا (گرتی) ہے،
پھر اس کو لے کر ڈھے (گر) پڑا دوزخ کی آگ میں۔

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

اور اللہ راہ (ہدایت) نہیں دیتا بلے انصاف لوگوں کو۔

لَا يَزَالُ بُنْيَاهُمُ الَّذِي بَنَوْا إِيمَانَهُ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقْطَعَ قُلُوبُهُمْ

.110

ہمیشہ رہے گا اس عمارت سے جو بنائی تھی شبہ ان کے دل میں، مگر جب ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

.111

اللہ نے خریدی مسلمانوں سے ان کی جان اور مال، اس قیمت پر کہ ان کو بہشت ہے۔

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ

کڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر مارتے ہیں اور مرتے ہیں۔

وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ

وعدہ ہو چکا اس کے ذمہ پر سچا، توریت اور انجیل اور قرآن میں۔

وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ

اور کون ہے قول کا پورا اللہ سے زیادہ؟

فَإِسْتَبْشِرُوا بِمَا يَعْتَمِدُونَ

سو خوشیاں کرو اس معاملت پر، جو تم نے کی ہے اُس سے۔

وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

اور یہی ہے بڑی مراد ملنی۔

الَّتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ

.112

توبہ کرنے والے، بندگی کرنے والے،

شکر کرنے والے، بے تعلق رہنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے،

الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالثَّانِيُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ

حکم کرنے والے نیک بات کو اور منع کرنے والے بُری بات سے،

وَالْحَافِظُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ

اور تحامنے والے حدیں باندھی اللہ کی۔

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

اور (جنت کی) خوشخبری سنائیمان والوں کو۔

مَا كَانَ لِلَّهِ يُنْهَىٰ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ يَسْتَغْفِرُوا إِلَيْهِ مُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَئِيْ قُرْبَىٰ

.113

نہیں پہنچانی کو اور مسلمانوں کو، کہ بخشش مانگیں مشرکوں کی، اور اگرچہ وہ ہوں ناتے والے (رشتے دار)،

مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَهْمُمُ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ

جب کھل چکا ان پر کہ وہ ہیں دوزخ والے۔

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارًا إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ

.114

اور بخشش مانگنا ابراہیم کا اپنے باپ کے واسطے، سونہ تھا مگر وعدہ کے سب، کہ وعدہ کر چکا تھا اس سے۔

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ

پھر جب اس پر کھلا کہ وہ دشمن ہے اللہ کا، اس سے بیزار ہوا۔

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّلَ حَلِيمٌ

ابراہیم بڑا نرم دل تھا تحمل والا۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلِّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَى أَهْمُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ

.115

اور اللہ ایسا نہیں کہ مگر اہ کرے کسی قوم کو جب ان کو راہ پر لا چکا،

جب تک کھول نہ دے ان پر جس سے ان کو بچنا۔

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

اللہ سب چیز سے واقف ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَهُ الْمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْكِمُ وَيُمِيمُ

.116

اللہ جو ہے اسکی سلطنت ہے آسمان و زمین میں۔ جلتا (زندگی دیتا) ہے اور مارتا ہے۔

وَمَالِكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ

اور تم کو کوئی نہیں اللہ کے سوا حماقی نہ مددگار۔

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوكُمْ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ

اللَّهُ مُهْرِبٌ مِّنْ بَيْنِ أَيْمَانِهِ وَمُهَاجِرٌ مِّنْ أَيْمَانِهِ، جُوْسَاتٌ هُوَ رَبِّهِ بِهِ مُشْكِلٌ كَمَا كَمْلَةٌ كَمْلَةٌ مِّنْ كُلِّهِ مُهْرِبٌ مِّنْ بَيْنِ أَيْمَانِهِ

ج

مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ

بعد اسکے کہ قریب ہوئے کہ دل پھر جائیں بعضوں کے ان میں سے، پھر مُهْرِبٌ مِّنْ بَيْنِ أَيْمَانِهِ ہوا ان پر۔

إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

وَهُوَ أَنْ پَرْ مُهْرِبٌ مِّنْ بَيْنِ أَيْمَانِهِ رَحِيمٌ

وَعَلَى الْثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَقُوا

اور ان تین شخص پر جن کو پیچھے (جن کا معاملہ ملتی) رکھا تھا۔

حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ

یہاں تک کہ جب تنگ ہوئی ان پر زمین ساتھ اسکے کہ کشادہ ہے، اور تنگ ہوئی ان پر اپنی جان،

وَظَاهِرُوا أَنَّ لَامْلَجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ

اور اٹکے (گمان کرنے لگے) کہ کہیں پناہ نہیں اللہ سے مگر اسی کی طرف۔

ج

ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِتَتُوبُوا

پھر مُهْرِبٌ مِّنْ بَيْنِ أَيْمَانِهِ، کہ وَهُوَ بَرِّ (لوٹ) آئیں۔

إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

اللَّهُ ہی ہے مُهْرِبٌ مِّنْ بَيْنِ أَيْمَانِهِ رَحِيمٌ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ سے، اور رہو ساتھ سچوں کے۔

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلُهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

نہ چاہیئے مدینے والوں کو، اور جو انکے گرد گنوار ہیں، کہ (چھوڑ کر پیچھے) رہ جائیں رسول اللہ کے (کا) ساتھ،

وَلَا يَرْغُبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نُفُسِهِمْ

اور نہ یہ کہ اپنی جان کو چاہیں زیادہ اس کی جان سے۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ضَمَاءٌ وَلَا نَصْبٌ وَلَا تَحْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

یہ اس واسطے کہ نہ کہیں پیاس کھینچتے ہیں نہ محنت اور نہ بھوک اللہ کی راہ میں،

وَلَا يَطْمُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَذْوٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ

اور نہ پاؤں پھیرتے ہیں کہیں جس سے خفا ہوں کافر، اور چھینتے ہیں دشمن سے کچھ چیز،

مگر لکھا جاتا ہے اس پر ان کو نیک عمل۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيقُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

تحقیق اللہ نہیں کھوتا حتیٰ نیکی والوں کا۔

وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَيْرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ

اور نہ خرچ کرتے ہیں کچھ خرچ چھوٹا یا بڑا، اور نہ کاٹتے ہیں کوئی میدان مگر لکھتے ہیں ان کے واسطے،

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

کہ بد لہ دے ان کو اللہ، بہتر کام کا جو کرتے تھے۔

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيَتَفَرَّوْا كَافَّةً

.122

اور ایسے تو نہیں مسلمان کہ سارے کوچ میں نکلیں۔

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّينِ

سو کیوں نہ نکلے ہر فرقہ سے ان کے ایک حصہ تا (ک) سمجھ پیدا کریں دین میں،

وَلَيَنْتَذِرُوا أَقْوَمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

اور تا (ک) خبر پہنچا دیں اپنی قوم کو، جب پھر جائیں (لوٹ کر آئیں) ان کی طرف، شاید وہ بچتے رہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلْوُنُكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلَا يَجِدُوا فِي كُمْ غُلْظَةً

.123

اے ایمان والو! لڑتے جاؤ اپنے نزدیک کے کافروں سے، اور چاہیئے ان پر معلوم ہو، تمہارے بیچ میں سختی،

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

اور جانو کہ اللہ ساتھ ہے ڈروالوں کے۔

وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا

.124

اور جب نازل ہوئی ایک سورت، تو بعضے ان میں کہتے ہیں کس کو تم میں زیادہ کیا اس سورت نے ایمان؟

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

سو جو لوگ یقین رکھتے ہیں، ان کو زیادہ کیا ایمان، اور وہ خوش و قیٰ کرتے ہیں۔

.125

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَأَهُمْ رِجُسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُواهُمْ كَافِرُونَ

اور جنکے دل میں آزار (بیماری) ہے، سو ان کو بڑھائی گندگی پر گندگی، اور وہ مرے جب تک کافر ہے۔

.126

أَوَلَيَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّاتٍ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ

یہ نہیں دیکھتے کہ وہ آزمانے میں آتے ہیں ہر برس ایک بار یادوبار، پھر توبہ نہیں کرتے،
اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔

.127

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةً نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَأُكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا

اور جب نازل ہوئی ایک سورت، دیکھنے لگے ایک دوسرے کی طرف کہ کوئی بھی دیکھتا ہے تم کو، پھر چلے گئے۔

صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

پھیر دیئے ہیں اللہ نے دل ان کے، اس واسطے کہ وہ لوگ ہیں کہ سمجھ نہیں رکھتے۔

.128

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ

آیا ہے تم پاس رسول تم میں کا،

عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ

بھاری (ناگوار) ہوئی ہے اس پر جو تم تکلیف پاؤ، تلاش رکھتا ہے تمہاری (بھلانی کی)،

بِالْمُؤْمِنِينَ رَاعُوفٌ رَّاحِيمٌ

ایمان والوں پر شفقت رکھتا ہے بان۔

.129

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ

پھر اگر وہ پھر جائیں تو تو کہہ،

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكِّلُ

بس (کافی) ہے مجھ کو اللہ، کسی کی بندگی نہیں سوائے اس کے۔ اسی پر میں نے بھروسا کیا،

وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

اور وہی ہے صاحب بڑے تخت کا۔

© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

www.quran4u.com